

سوال

مسیاری شادی کا حکم کیا ہے ؟

پسندیدہ جواب

الحمد لله.

اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بہت سارے اہداف و مقاصد کے لیے شادی مشروع کی ہے، اس میں کثرت نسل اور نوع انسانی کی حفاظت اور اولاد پیدا کرنا شامل ہے، اور ان مقاصد میں عفت و عصمت اور انسان کو فواحش اور حرام کاموں سے محفوظ کرنا بھی شامل ہے۔

اور ان مقاصد میں مرد و عورت کے مابین زندگی کے معاملات اور حالات میں معاونت موانست بھی شامل ہے، اور ان مقاصد میں خاوند اور بیوی میں محبت و مودت اور سکینت و طمانیت بھی ہے، اور اس میں نرمی و عاطفت کے سایہ تلے اولاد کی صحیح اور قوی تربیت بھی شامل ہے۔

اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فرمان ہے:

اور اس کی نشانیوں میں ہے کہ تمہاری ہی جنس سے بیویاں پیدا کیں تا کہ تم ان سے آرام پاؤ، اس نے تمہارے درمیان محبت و ہمدردی قائم کر دی یقیناً غور و فکر کرنے والوں کے لیے اس میں بہت سی نشانیاں ہیں الروم (21).

شیخ سعدی رحمہ اللہ کہتے ہیں:

" شادی کے نتیجہ میں مودت و محبت اور رحمت کے اسباب مرتب ہوتے ہیں، چنانچہ بیوی سے استمتاع اور اولاد کی بنا پر لذت اور منفعت اور ان کی تربیت حاصل ہوتی ہے، اور بیوی سے آرام ملتا ہے، اس لیے کسی کے درمیان بھی آپ اس طرح کی محبت و مودت اور رحمت نہیں دیکھیں گے جو خاوند اور بیوی کے مابین ہوتی ہے " انتہی

دیکھیں: تفسیر السعدی (1 / 369).

ان آخری برسوں میں ایک ایسی شادی ظاہر ہوئی ہے جسے لوگ زواج مسیاری کا نام دیتے ہیں، اور یہ نام عام لوگوں کی زبان پر ہے تا کہ عادی طور پر کی جانے والی شادی سے اس کی تمیز ہو سکے۔

کیونکہ اس شادی میں مرد بیوی کی جانب وقتاً فوقتاً جاتا ہے اور اس کے پاس مستقل طور پر نہیں رہتا۔

اس کی معروف صورت یہ ہے:

اس میں شادی کے سب ارکان اور ساری شروط پائی جاتی ہیں، لیکن بیوی اپنے کچھ شرعی حقوق اپنے اختیار اور رضامندی سے چھوڑ دیتی ہے مثلاً: نفقہ اور مہبت یعنی خرچ اور رات بسر کرنا۔

اس طرح کی شادی کرنے کے کئی ایک اسباب ہیں:

- 1 - شادی کی عمر سے زائد کو پہنچ جانے والی عورتوں کی کثرت، اور مطلقات اور بیوہ اور مخصوص حالات والی عورتوں کی کثرت ہونا۔
 - 2 - بہت ساری بیویاں تعدد یعنی خاوند کو ایک سے زائد شادیاں کرنے کی مخالفت کرتی ہیں، اس کی بنا پر خاوند اس طرح کی شادی کرنے پر مجبور ہوتا ہے تا کہ پہلی بیوی کو اس کا علم نہ ہو سکے۔
 - 3 - بعض مردوں کا عفت و عصمت کا حصول اور حلال فائدہ حاصل کرنے کی رغبت جو ان کے مخصوص حالات کے موافق ہو۔
 - 4 - بعض لوگوں کا شادی کے اخراجات اور ذمہ داریوں سے بھاگنا، اس کی وضاحت اس سے ہوتی ہے کہ اس طرح کی شادی کرنے والے کم عمر کی نوجوانوں کی نسبت زیادہ ہے۔
- یہ معلوم ہونا چاہیے کہ نکاح کی یہ صورت ایک مثالی اور مطلوبہ صورت نہیں، لیکن اس کے باوجود یہ اس وقت صحیح ہو گی جب اس میں شادی کی شروط اور ارکان پائے جائیں: مثلاً رضامندی، اور ولی اور گواہوں کی موجودگی.... الخ شیخ ابن باز رحمہ اللہ نے یہی فتویٰ دیا ہے۔
- اس لیے کہ عورت کو حق حاصل ہے کہ وہ شرعی طور پر مقرر کردہ اپنے سارے یا کچھ حقوق ساقط کر دے، جن میں خرچ اور رہائش اور رات بسر کرنے کی تقسیم شامل ہے۔
- صحیح بخاری اور مسلم میں حدیث وارد ہے کہ:

"سودہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اپنی باری عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو بہہ کر دی تھی"

اگر شرعی طور پر یہ جائز نہ ہوتا تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی اس کو تسلیم نہ کرتے، اور ہر وہ شرط جو عقد نکاح کی جوہری غرض اور اصلی مقصد میں اثر انداز نہ ہوتی ہو تو وہ شرط صحیح ہے، نہ تو وہ عقد نکاح میں

مخل ہوتی ہے اور نہ ہی اسے باطل کرتی ہے۔

مجمع الفقہی کا فیصلہ ہے:

" مجمع الفقہ الاسلامی کے مکہ مکرمہ میں منعقد اٹھارہویں اجلاس میں درج ذیل قرار پاس کی گئی:

" مجمع الفقہی اس بات کی تاکید کرتا ہے کہ شادی کے نئے عقد اگرچہ اس کے نام اور اوصاف اور صورتیں مختلف ہیں کو شریعت مطہرہ کے مقرر کردہ قواعد و ضوابط کے تابع ہونا چاہیے اور اس میں ارکان اور شروط پوری ہوں اور موانع سے خالی ہوں۔

ہمارے دور عصر حاضر میں لوگوں نے بعض یہ عقد ایجاد کر لیے ہیں جس کے احکام ذیل میں بیان ہیں:

ایسا عقد زواج جس میں عورت رہائش اور خرچ اور تقسیم یا کچھ دوسرے حقوق راضی و خوشی ختم کر دے کہ مرد جب چاہے دن یا رات میں اس کے پاس آ سکتا ہے۔

اور یہ اسے بھی شامل ہے کہ ایسا عقد نکاح جس میں عورت اپنے گھر والوں کے ساتھ میکے میں ہی رہے اور جب چاہیں دونوں عورت کے میکے یا کسی اور جگہ مل لیں اس طرح کہ خاوند بیوی کو نہ تو رہائش دے اور نہ ہی خرچ۔

یہ دونوں عقد اور اس طرح کے دوسرے عقد اس وقت صحیح ہونگے جب اس میں شادی کے ارکان اور شروط ہوں، اور کوئی مانع نہ پایا جائے، لیکن یہ خلاف اولیٰ ہے " اھ

اور اس خاوند نے بعض مصلحتوں کو ثابت کر لیا جو مرد اور عورت دونوں کے لیے ہیں:

اس طریقہ پر شادی کرنے والی کچھ عورتیں کہتی ہیں:

" اس شادی میں بہت سارے حقوق کو چھوڑے جاتے ہیں جو کہ عورت صرف اس لیے چھوڑتی ہے کہ وہ کسی ایسے انسان سے شادی کر سکے جس سے وہ راضی ہو کہ وہ اسے کچھ اطمینان اور خوشی اور شخصی آزادی اور مستقبل کی امیدیں اور نیک و صالح اولاد مہیا کر سکے، ان حقوق کے چھوڑے جانے کے باوجود میں اس خاوند پر اعتراض نہیں کرتی اور مطالبہ کرتی ہوں کہ معاشرے میں اس کے متعلق راہنمائی پھیلائی جائے تا کہ لوگ اس کا معنی اور اس کے اسباب اور حالات اور فوائد و نقصانات کو سمجھ سکیں "

اور ایک دوسری عورت اس طرح کی شادی کرنے میں اپنی کامیابی بیان کرتے ہوئے کہتی ہے:

میں اس سے زیادہ سپنے نہیں دیکھ سکتی، اور اللہ نے مجھ پر جو بھی نعمت کی ہے میں اس کا شکر ادا کرتی ہوں "

اور تیسری عورت جو اس طریقہ پر شادی کر چکی ہے اس کا کہنا ہے:

" میں بالکل صراحت کے ساتھ کہتی ہوں کہ میرا یہ تجربہ کامیاب رہا ہے اور میں اپنے نفسی استقرار کو پا چکی ہوں، میرا اعتقاد ہے کہ طرفین میں مکمل پختگی اور ہم آہنگی کے ہوتے ہوئے معاشرے میں اس کی تطبیق ممکن ہے، اسی طرح جب عورت معین حالات میں ہو (مثلاً شادی کی عمر سے زیادہ عمر، یا پھر بیوہ، یا مطلقہ یا وہ عورت جو مناسب خاوند نہیں پا سکی) اپنے آپ کو حرام کام میں پڑنے یا پھر بغیر خاوند کے زندگی گزارنے سے محفوظ رکھ سکتی ہے۔

اور چوتھی کا کہنا ہے:

مسیار شادی کا تجربہ قلیل سے عرصہ سے کر چکی ہوں میں کہتی ہوں کہ یہ تجربہ نوے فیصد (90) کامیاب ہے لیکن شرط یہ ہے کہ طرفین متفق ہوں اور ہم آہنگی ہو۔

ہم یہ انکار نہیں کرتے کہ اس شادی کی وجہ سے کچھ نقصانات بھی ہو رہے ہیں:

- 1 - ہو سکتا ہے اس صورت میں شادیاں کرنے سے متعہ کی مارکیٹ میں تبدیل ہو جائے، اور مرد ایک عورت سے دوسری عورت کی طرف منتقل ہوتا رہے، اور اسی طرح عورت بھی ایک مرد سے دوسرے مرد کی طرف۔
 - 2 - خاندان اور فیملی کے مفہوم میں مکمل طور پر خلل پیدا ہونا، کیونکہ نہ تو مکمل رہائش ہوتی ہے، اور نہ ہی خاوند اور بیوی میں مکمل مودت و محبت۔
 - 3 - اس قسم کی شادی میں عورت مرد کی نگرانی کو نہیں سمجھ سکتی ہو سکتا ہے وہ محسوس کرے کہ مرد اس پر نگران نہیں، جس کے نتیجہ میں اس کے سلوک میں خرابیاں پیدا ہوں اور اس طرح وہ اپنے آپ کو بھی اور معاشرے کو بھی نقصان دے سکتی ہے۔
 - اولاد کی تربیت صحیح اور محکم طریقہ سے نہیں ہو سکتی اور وہ مکمل نشو و نما نہیں کر سکتے، جس سے انکی شخصیت پر سلبی اثر ہوگا۔
- ان محتملہ نقصانات کے پیش نظر اور اس صورت کی شادی کے احتمالات کی بنا پر یہ شادی مثالی نہیں ہو سکتی، لیکن بعض حالات اور مخصوص ظروف والے لوگوں کے لیے یہ مقبول رہے گی۔
- واللہ اعلم۔